

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


المناجاة الشريفة

للداعي لاجل العلامة الخير سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين
طول الله عمره الشريف الى يوم الدين

أَمَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

سُجْنَةُ الْمُنَاجَاةِ الْغَرَاءِ

١٤٣٩ هـ



مُناجاة غرّاء

أَمَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

سُجْنَةُ الْمُنَاخَاتِ الْغَرَاءِ
١٢٣٣ م ١٣١٤ هـ ٧٥٠

سَنَةُ ١٤٣٩

سَكِنْتُ الشَّكْرَ وَجْمَعَ الْبَرَكَاتِ

سَنَةُ ١٤٣٩

المقدمة

الحمد لله الذي جعلنا بمناجاة اوليائه الاطهار ودعائهم المستجاب من المتبولين
اليه المبتولين * وجعلنا بذكر فضائلهم ومناقبهم من المتوصلين اليه المتوصلين *
ولقد بين الداعي لأجل الفاطمي

سيدنا علي قدر مفضل سيف الدين طع

هذه السنة سَنَنُ الشِّكْرَ وَجَعِ الْبَرَكَاتِ عند اختتام امتحان الجامعة السيفية
التي بركات الدعاة بها حدقه * معنى قول الله تعالى "فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيَ نَبْغَوْكُو
صَدَقَةً" * فاوضح ان الصدقة هي في الحقيقة التصديق لمقامات اولياء الله
الاطهار * وبه فقط تصح الجوى والمناجاة لله الرحيم الغفار *
فتلاوتنا لما صنف الدعاة المطلدون الكرام من المناجاة في ليلة القدر العظيمة
القدر * مع صدق النية واحلاص الطوية وانشراح الصدر * في وجه من الوجه
هي تصدقنا لمقامهم العالي * وحملهم المتلالي * لاننا نعتقد ان دعواهم * مستجابة
عند الله تعالى لكرامتهم * وبها يرد القضاء وقد ابرم اشد ابرام * ويصرف الامور
ويغفر الاجرام *

ونتيقن انهم مواصلون بلا انقطاع طرفة عين بالتأيد الرباني من العالم
القدساني فنجاجاتهم اذا قد افعمت ببركات الفيض الخاص النازل في ليلة القدر
من الالهام الامامي الفاطمي وبشارات المقام القائحي وهم القائمون في مقام من
اذا خلا في الظلام مبتلا اجا به الله "لبيك عبدي" متضلا

ومن احساناتهم الجليلة انهم نشروا بين اهل الولاء في ليلة القدر هذه
المناجاة مهدین لهم الفوز والنجاة فيا حظ من دعا في هذه الليلة المباركة تاليا
تلك المناجاة التي صنفوها ويالسعادة من استنارها وتدرك معانها التي الفوها

فقد صنف داعي عصرنا الداعي الاجل الفاطمي

سیدنا عالیٰ قدر مفضل سيف الدين طع

على نجح الدعاء المطلقين ، خصوصا على نجح الداعين الاجلين الفاطميين سیدنا
طاهر سيف الدين رض وسیدنا محمد برهان الدين رض مناجاة بلغة المعاني وهي
سُجْنَةُ الْمُنَاجَاةِ الْعَرَقِ سنة الف واربعمائة وتسع وثلاثين (١٤٣٩)
من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله اللال عليهم سبع من المثاني
مطلعها خير فاتحة متضمنة رموز سورة الفاتحة وهو هذا:

أَمَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ تَعْبُدُ

وَإِيَّاكَ دَابِّا نَسْتَعِينُ وَنَخْمَدُ

فليتلقها - اهل الولاء بابي الشكر داعين ملن وهبها لهم بصحة وعافية
مع طول العز والمجد لله رب العالمين .

خوى المقدمة

الله تعالى نو حمد كه الله تعالى يه هنې پوتانا اولىاء اطهار نى مناجاه لە دعاء
مستجاب سى پوتانى طرف تبتل لە ابتهال كىناراؤ ما سى كىدا، لە هنې يە
سگلا اولىاء نا فضائل لە مناقب نى ذكر كرى نے پوتانى طرف وسيلة لىناراؤ لە
پېنچناراؤ ما سى كىدا، تحقيقاً الداعي الأجل الفاطمى

سیدنا عاليٰ قدر مفضل سيف الدين طع

ا سال شَيْئَتَ اللَّهُ كُوْنَجَمْعُ الْبَرَكَاتِ سـ٢٠١٣ـ ما الجامعة السيفية - جـ نـ دعـة
نى بركات گىري كىرى چە، اهنا امتحان نا اختتام نا نزديك الله تعالى نا ا قول
مبارك "فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَعْوَنْكُوكَ صَدَقَةً" نـى معنى بيان فرماوي، الله تعالى
فرماوـى چە كـ تمـىـنـىـنـىـجـىـوـىـ كـروـ، مناجـاـتـىـ كـروـ توـپـەـلـىـ صـدـقـةـ نـىـ مـقـدـمـ كـروـ، توـ
سـيـدـنـاـ الدـاعـىـ الأـجـلـ الفـاطـمـىـ طـعـ يـهـ اـيمـ واـضـعـ فـرمـاـيـوـكـهـ صـدـقـةـ نـىـ حـقـيقـةـ ماـ
اـولـىـاءـ اللهـ اـلطـهـارـ، نـاـ مـاقـمـاتـ نـىـ تـصـدـيقـ كـروـوـ چـەـ، سـچـاوـوـ چـەـ، يـهـ سـچـاوـاـسـىـجـ
الـلـهـ تـعـالـىـ وـاسـطـ نـجـوـىـ لـنـ منـاجـاـتـ صـحـيـحـ تـهـائـىـ چـەـ،

لیلة القدر جو نی قدر عظیم چھے، یہ رات ما دعاۃ مطلقین سلام اللہ علیہم
 مناجاۃ نے تصنیف فرمائے چھے، یہ مناجاۃ نے ہمیں سچی نیة، ضمیرنا اخلاص
 نا ساتھے، سینہ نے شرح کری نے تلاوة کریئے چھے، تو یہ تلاوة کرو و ایاں وجہ ما
 دعاۃ کرامؑ نا عالی مقام نے روشن محل واسطے تصدیق کرو و چھے، کیم کہ ہمیں
 ایم عقیدہ راکھیئے چھے کہ یہ سگلانی اللہ تعالیٰ نازدیک جم کرامۃ چھے اہنا سبب
 یہ سگلانی دعاء عند اللہ مستجاب چھے، انے ایم عقیدہ راکھیئے چھے کہ یہ سگلانی
 فی دعاء نا سبب مضبوط کروا ما ایا ہوا قضاۓ قدر نے رد کری دیوا ما اورے چھے،
 امور نے تصریف کروا ما اورے چھے، انے جرم نے معاف کروا ما اورے چھے، انے ہمیں
 ایم یقین راکھیئے چھے کہ یہ سگلانی دعاۃ کرامؑ عالم قدسانی سی تائید رباني نا ساتھے
 ہمیشہ جوڑایا ہوا چھے، ایک انکھی مچکار بھی یہ منقطع نہیں تھاتو،

تو یہ سگلانی دعاۃ کرام علیہم السلام فی مناجاۃ - لیلة القدر ما خاص نازل
 تھانار امام فاطمی نا الہام لے مقام قائمی فی بشارات نافیض سی بھری ہوی چھے،
 یہ سگلانی دعاۃ وہ مولی نا مقام ما قائم چھے جد مولی رات فی اندھیری ما جد وقت
 خلوۃ ما خدا نے دعاء کرے چھے تو خدا تعالیٰ اھنے "لبیک عبدی" سی جواب
 دیئے نے اہنا پر احسان کرے چھے،

دعاۃ مطلقین سلام اللہ علیہم نا گھنا مھونا احسانات ما سی یہ چھے کہ امناجاۃ
 نے یہ سگلانی اهل الولاء نا درمیان لیلة القدر ما نشر کرے چھے، انے اہنا سی یہ
 سگلانی جیت لے نجاة فی تھمد کرے چھے،

عجب بلند نصیب چھے وہ شخص واسطے کہ جم امناجاۃ فی تلاوة کری نے

أَمَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

الله تعالى نے دعاء کرے، لئے عجب خوش نصیبی چھے وہ شخص واسطے کد جید
مناجاہ سی نور لے لئے اہنی معانی ما تدبر کرے،

تحقیقاً ہمارا زمان نا داعی - الداعی الاجل الفاطی

سیدنا عالیٰ قدر مفضل سیف الدین طع

یہ دعا مطلقین رض انے خاصہ الداعین الاجلین الفاطمین سیدنا طاهر
سیف الدین رض انے الداعی الاجل الفاطی سیدنا محمد برهان الدین رض نی
نحو مطابق ا سال سنہ ۱۴۳۹ھ ما ایک بلیغ مناجاہ نے تصنیف فرمائی چھے،
اہنا مطلع ما سورة الفاتحة نارِ موز نے تضمین کیا چھے، تداً مثل چھے :

أَمَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ دَابِّاً نَسْتَعِينُ وَنَخْمَدُ

اہل ولاء شکرنا ہاتھو سی امناجاہ نے تلقی کرے، لئے جہ مولیٰ یہ امناجاہ
نے بخشی چھے اہنا حق ما صحة وعافية لئے دراز زندگی واسطے دعاء کرتا رہے،
والحمد لله رب العالمین .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ دَابًا نَسْتَعِينُ وَنَحْمَدُ

لَهُ يَوْمُ الدِّينِ (قيامة نادن) نَا مالِكٌ ، تارِيَّج همیں عبادت کریئے چھے لئے تارا
سیج همیشہ همیں یاری طلب کریئے چھے لئے تاروچ همیں حمد کریئے چھے .

دَعْوَنَاكَ يَا رَحْمَنُ دَعْوَةَ مُخْلِصٍ
لَكَ الدِّينِ قَدْ نَاجَاكَ نَحْوَكَ يَقْصِدُ

لَهُ رَحْمَنُ ! همیں تنے دعا کریئے چھے۔ وہ صاحبِ فی دعاء نی مثلاً، جس تارا اواسطے
دین ما اخلاص کرے چھے، لئے مناجات کریں نے تاری طرف قصد کرے چھے .

إِلَى بَيْتِكَ الْمَحْجُوحِ يُفْلِحُ قَصْدُنَا
لَا نَأْعَلِ بَابَ الْمَدِينَةِ نَسْبُدُهُ

٣

تاراگر - جہ نی طرف حج کرواما اورے چھ - اهنی طرف ہارو قصد کامیاب تھائی
چھ کیم کہ ہیں مدینۃ نا دروازہ پر سجدہ بجاویئے چھ۔ (اللہ سجحانہ فرموا رے چھ کہ "وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُبْكَدًا وَقُولُوا حَلَةً تَقْرِنُكُمْ خَطَبَنِكُمْ وَسَرِيدُ الْمُخْسِنِينَ")

سَعِدْنَا بِإِظْهَارِ النَّدَامَةِ أَوَّلًا
بِهِ أَخْرًا بَعْدَ الْهُبُوطِ لَنَصْعَدُ

٤

شروع مالا عالم الابداع سی گرتی وقت ہیں یہ روئی روئی نے، ندم لئے استغفار نے ظاہر
کریئے سعادۃ حاصل کیدی، لئے گروا بعد اھنا سببج ہیں آخر ما ضرور پاچما ہمارا
وطن قدیم نی طرف چڑھی جئیسوں۔

٥

أَجْرَنَا أَغْثَنَا وَأَكْفِنَا مَا يَهْمَنَا
فِانَا إِلَى خَيْرَاتِ ذِكْرِكَ نَسْنُدُ

تو ہئے واراپ، ہمنے سہارو اپ، لئے ہئے وہ چیز سی کفاية کری دے کد جد
ہمنے پریشان کرے چھ، کیم کہ ہیں تاری ذکر نی خیرات پریشکو دئیے چھ۔

فَعَفُوا وَغُفرًا قَدْ رَجُونَاكَ خَاصِبِي إِلَى
رُؤُسِ حَيَاةٍ نَحْوَ بَأْيَكَ نَصْمُدُ

پچھی تو ہے معاف کری دے لئے مغفرہ عطا کری دے، ہمیں شرم نا سبب
ہمارا ما تھا جھکاوی نے تنے امید کرتا ہوا تارا باب نی طرف قصد کریئے چھ۔

نَادِيْكَ بِالْخُلَاصِ يَارَبِ تَوْبَةً
نَصُوحًا فَتُبْعَثِنَا بِعَفْوِكَ تُرْفِدُ

ہمیں تنے اخلاص سی نداء کریئے چھ کہ لے رب! ہمیں خالص توبہ کریئے چھ، اھوی
توبہ کہ ہوئے پاپہما یہ مثل نا گناہ نہیں کریئے، پچھی تو ہماری توبہ نے قبول کری نے تاری
معافی نی سخاوة بخشی دے۔

أَعُذُّ بِرَبِّ مِنْ نَارٍ سَأَلَنَاكَ جَنَّةً
وَمَغْفِرَةً إِذْ بِالْأُلُوهَةِ نَشْهَدُ

اے رب! اگ سی ہے پناہ کر، ہمیں یہ تنے جنة نو سوال کیدو چھ، ہمیں "لا اله الا الله"
کہی نے تارا واسطے شہادة دئی نے مغفرہ نو سوال کریئے چھ۔ (شهر رمضان ما ہمیں پڑھیں
پڑھیں چھ کہ "لا اله الا الله، آشْتَغَفِرُ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ")

وَإِنَّا تَلَقَّيْنَا مِنَ الْكَلِمَاتِ يَا
إِلَهَ الْوَرَى مَا لَا يَزُولُ وَيَنْفَدُ

لَهُ الْهُدَى الْعَالَمِينَ! همیں وہ کلمات نی تلقی کریئے چھے کہ جو ہمیشہ باقی رہسے،
جد کوئی وقت مٹھے نہیں، لئے کھٹے نہیں۔

هِيَ الْمِيمُ وَالْعَيْنُ الْعَظِيمَةُ هَذَا
هِيَ الْفَاءُ وَالْحَاءُ أَنْ دَابًا تُمَجَّدُ

یہ کلمات کون چھے کہ میم (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)، عین عظیمة (مولانا علی صع)،
فاء (مولاتنا فاطمة صع) اور حاء (مولانا حسن لئے مولانا حسین صع)، یہ کلمات نی
ہمیشہ تعظیم کرواما اورے چھے۔

تَوَسَّلْتُ بِالْمُخْتَارِ طَهَ الَّذِي بِهِ
إِلَى الْقَدْسِ عَوْدٌ وَهُوَ وَاللَّهُ أَحْمَدٌ

میں احمد مختار طہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وسیلة لئوں چھوں، اپ نا سبب خدا نا قسم
عالیم القدس نی طرف عَوْدَ احمد چھے۔

(الله سبحانہ فرمادے چھے: "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَازِكَ إِلَى مَعَادٍ")

**لَهُ أَيَّةٌ فِي الْبَدْرِ عِنْدَ انشِقَاقِهِ
لِسَحْرِ الْأَلَى قَدْ أَعْرَضُوا عَنْهُ هَمْرَدٌ**

اپ نا واسطے انشقاق القمر نو معجزہ چھے، یہ معجزہ وہ لوگوں نا جادو نے تباہ کرے چھے کہ جد سکلا یہ اپ سی اعراض کیدو۔ (الله تعالیٰ فرمادے چھے: "اقْتَرَبَتِ الْأَسَاعَةُ
وَأَشْقَقَ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا إِيمَانَهُ يَعِصُّونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسَيْمٌ ۝")

**بِرَحْمَتِهِ خُلِّدًا مِنْ فَوْقَ سِبْطِهِ الْ
حُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَيْمَدٌ**

اپ رحمة للعالمين چھے، اپ وہ شخص نا واسطے جنتے نی تمہید کرے چھے کہ جد اپ نا نواسہ حسین پر روئی یا زلاوے یا ررووند اؤتو هوئی، تو رروا جیوو منہ بناؤے۔

**وَبِالْمُرْتَضَى الْمَوْلَى عَلَى مَقَامِهِ
يَجْلِّ عَنِ الْأَدْرَاكِ فَالْعَزْرُ يُرِشدُ**

میں مولانا علی المرتضی صع نو وسیلة لوب چھوں، جدمولی نو مقام ادراک کرواسی بلند چھے، ترسی عجز نو اقرار کروو۔ یہ شمارگ ناراستہ نی طرف ہدایہ دے چھے۔

وَأَخْبَرَ عَنْ تَعْدَادِ أَدْوَارِ مَا مَضِي
عَلَى رَأْسِهِ بَحْمُرَى يَتَوَقَّدُ

اپ نا ما تھا مبارک پر جد چمکتا تارا دیکھاتا تھا – یہ سابق ادوار نی گنتی نی خبر کیدی۔

هُنَالِكَ وَقْعُ السَّيْفِ مِنْ ضِدِّهِ بَرَى
لِشِيعَتِهِ بِالْفَوْزِ صَارِيُوكِدُ

یہ جگہ پر (اپ نا فرق مبارک پر) اپ نا دشمن ابن ملجم یہ تلوار سی وار کیدو، تروقت "فُرْتُ وَرَبَ الْكَبَّةَ" کی نے اپ یہ اپ ناشیعہ واسطے جیت نی تاکید کری دیدی۔ (شینعہ علی ہم الفائزون)

بِإِحْسَانِهِ يُحِبِّي الَّذِي هُوَ حُسْنٌ
إِلَى مَنْ مُسِيْدِيًّا نَحْوَهُ يَتَعَمَّدُ

امیر المؤمنین صع احسان کری نے وہ شخص نے زندہ کرے چھ کہ جہ اپ نا قول "اَخْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ" نے ما تھے چڑھاوی نے وہ شخص نی طرف احسان کرے چھ، جہ اہنا ساتھے جانی جوئی نے بُرائی کرے چھ۔

بِحَقِّ الْبَتُولِ الظَّهِيرَفَاطِمَةَ الَّتِي
بِأَدْمُعْهَا نَارَ الْمَأْثِيمِ ثُبُرْدَ،

میں مولاتنا فاطمة البتول صع نو وسیلة لئوں چھوں، جد پاک ذات چھے، اپ
- اپ نا انسو سی گناہو نی آگ نے بُجاوی دے چھے .

وَذِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ دَلَّتْ عَلَى مَقَامٍ
— ٧٥ —
مَهَا مَنْ رَجَاءَ فِيهَا رِضَاهَا لِيَسْعَدَ

لے ا لیلۃ القدر مولاتنا فاطمة صع نا مقام پر دلالة کرے چھے، جد شخص ارات
ما اپ نی خوشی نی امید کرسے یہ ضرور سعادۃ مند تھاسے .

مُلَاءَتُهَا بِالنُّورِ تَهْدِيُ إِلَى الدُّعَا
ةِ كُلُّهُمْ فِي السَّتْرِ نُورٌ مُحَسَّدٌ

اپ نی پچھوڑی نو نور - دعاۃ مطلقین ع نی طرف ہدایہ دے چھے، هر ایک
داعی ستري نی رات ما مجسم نور چھے .

وَأُمُّ أَبِيهَا أُمُّ مُحْسِنِهَا الَّذِي
لَقَدْ قَدْ مَتَهُ لِلَّدُّيُونِ يُسَدِّدُ

٢١

مولاتنا فاطمة ص نی کنية "أم آبیها" چھ، اپ محسن نام امام صاحبة چھ، جم
نے اپ یہ دیون اداء کرو خاطر مقدم کیا۔

بِضَرْبِ وَلَطْمٍ وَأَنْتَهَا كِلْحُرْمَةٌ
قَدِ انْتَقَلَتْ وَالْقَلْبُ بِالظُّلْمِ مُكْبَدٌ

٢٢

اپ نے درہ مارنار یہ درہ مارا، طماںچہ مارنار یہ طماںچہ مارا، لئے اپ نی بے حرمتی
کیا، لئے اپ اھوی حالہ ما وفات تھیا کہ اپ نو دل ظلم ناسیب غمزدہ چھ۔

وَبِالْحَسَنَيْنِ الطَّاهِرَيْنِ كِلَاهُمَا
لِإِرْشَادِ مَنْ يَنْبُغِي الْهِدَايَةَ فَرَقَدْ

٢٣

بے پاک امام مولانا امام الحسن ص نے مولانا امام الحسین ص نومیں وسیلہ لئوں
چھوٹوں، جد بیوے ما سی ہر ایک امام - ہدایہ طلب کرنار واسطے فرقد چھ، چکتا
ستارا چھ۔ (فرقد: هیشہ North Pole نازدیک دیکھائی چھ، اہنسا ی راستہ جانو امامدد ملے چھ)

فِنْ حَسَنٍ أَضْحَى بِحِلْمٍ وَهَيْبَةً
يَغِيظُ عَدُوًا كَانَ إِيَّاهُ يَحْسُدُ

یہ بیوے ما سی ایک حسن امام صع چھے، جد حلم لئے ہیبة سی وہ دشمن نے
غیظ مالایا، جد دشمن اپ نے حسد کر تو ٹھو.

كَذَامِ حُسَيْنٍ مَنْ بِجُودٍ وَنَجْدَةٍ
إِلَى مُنْتَهَى الرِّضْوَانِ اللَّهُ يَعْمَدُ

لئے بیسرا امام کون چھے؟ کہ حسین امام صع، جد مولی سخاوا لئے شجاعت سی
الله تعالیٰ فی خوشی فی نہایة طرف قصد کرے چھے.

أَكَانَ إِمَامٌ كَالْحُسَيْنِ لِنُصْرَةِ الْ
أَمْمَةِ طُرَّا بِالنَّفَائِسِ أَجْوَدُ

سو امام حسین صع فی مثل کوئی امام چھے کہ جد تمام ائمۃ طاہرین صع نے
یاری دیوا واسطے نفیس چیزو سی سخی تھئی گیا؟

**وَفِي كُلِّ شَيْءٍ قَدْ تَحْمَلَ لَمْ يَكُنْ
لَهُ غَيْرُ شُكْرٍ لِلَّهِ يَمِينٌ مَقْصَدٌ**

۲۷

اپ یہ ہروہ چیز جسے برداشت کیدی۔ اہما خلانو شکر کرو انسوی اپ
نو کوئی مقصد نہ ہتو۔

۲۸

**بَعْدِ أَبَادِ الْمُعْتَدِينَ وَ حِكْمَةٌ
كَمَا يَهْمَأْ قَدْ أَطْلَقَ الْحُرَّسَيْدٌ**

عدل لئے حکمة سی اپ یہ ظلم کرناراؤ نے ہلاک کری دیتا، یہ مثل عدل لئے حکمة سی اپ یہ
جنے ازاد کروا جوئی، اھنے ازاد کیتا، اپ سیدا شباب اهل الجنة نا ایک چھے، سید الشہداء چھے، اپ
یہ دشمنو نا بُرگہ ما سی خُر نے نکلا، لئے اھنے شہادہ واسطے پہلے رزا اپی، لئے اھنے دینا لئے آخرہ ما خر
بناوی دیتا۔

۲۹

**وَحِيدٌ بِعَمْدٍ السَّيْفِ صَارَ مُنْزَهًا
وَسَيْفٌ رِضَاءِ اللَّهِ صَارَ يُجَرِّذُ**

اپ یکتا چھے، توحیدی دعوے نے قائم نا کرنا رچھے، اپ۔ اپ نی تلوار نے میان ما کریئے اوات سی منزہ تقی گیا کہ اپ خدا نی
خوشی سوی کوئی چیز طلب کرے، لئے اپ یہ خدا نی خوشی فی تلوار نے نکالی نے جم مثل خدا چا چھے۔ یہ مثل دشمنو
نا حملہ لئے بدارا داونا باوجود سجدہ بجاوی نے، سجدہ مادعا کری نے شہادہ اختیار کرے چھے۔ (مولانا علی صیغہ علم فی
ذکر ما فرمایو چھے کہ سینہ الرضاء، حسین امام صیغہ نے شہادہ ما توحید، تنزیہ لئے تحرید نا اعلیٰ اسرار چھے)

جَوَادُ حُسَيْنٍ جَائِدُ بَصَرِيْلَه بُكَاءً عَلَيْهِ لِلسَّعَادَةِ مُرْشِدٌ

حسین امام صع نا اسپ وفادار - اپ پر روئی روئی نے پوتانو جان خرچی نے
ہنہناہٹ کرے چھ، امثل عمل کری نے سعادت حاصل کروانو ارشاد کرے چھ۔

إِسَيْفِ حَوْيِ شَرَّ الْخَبَائِثِ كُلِّهَا أَتَى قَاطِعًا رَأْسَ ابْنِ فَاطِمَةِ مُلِحْدٍ

مولاتنا فاطمة صع نا شہزادہ امام حسین صع نا رأس مبارک نے بدن اطہر سی
قطع کروانے ملحد شمر لے بوٹھو خنجر لئی نے آیو، جد ما جملہ خبات چھ۔

فَاهِ عَلَيْهِ كِلْمَةٌ بِتَوَجُّعٍ مَدَى الدَّهْرِ مَعَ أَنْفَاسِنَاتَرَدَّدَ

اهِ ثم اهِ! حسین امام صع نی مصیبة نی ذکر پر زمان نا دراز لگ - گنا درد لے
حزن سی، ہماری ہر سانس نا ساتھے - اہ نو نعرہ بلند تھاتو رہسے۔

نُنَادِيْ حُسَيْنًا مَرَّةً فَذَنَالُ مِنْ الْوُفِ عَطَايَا الْخَيْرِ مَا هُوَ أَرْبَدَ

هئی "يا حسین!" کہی نے ایک وارنلاء کریئے چھے تو ہزارو خیری بخششو
ما سی گوناگون برکات حاصل کریئے چھے۔

بِحُرْمَتِهِ اَرْزُقْ سَعْدَ وَلَدِ لِرَاجِنَادِ سَهَى يَاسُهَ وَالْجَدُّ مِنْهُ بُحَدَّدَ

حسین امام صعؑ نی حرمۃ سی فرزندو نی سعادۃ نی روزی وہ امید کرنار نے عطاے کرجے، جو
ہوئے فرزند سی نامید تھی گیا چھے، اہنی نامیدی انتہاء لگ گ پہنچی گئی چھے، حسین امام صعؑ نی
حرمة سی اہنون صیب نو تھئی جائی چھے۔ (امام حسین صعؑ نی اکرامہ دیکھی نے۔ اپ ناجد رسول اللہ صل
یہ فرمایی دیدو، کہیں! تینی یہ نبویہ نی لاج را کھی لیدی)

وَهَبْ زُورَ كُنْ مِنْ فَضْلِ قُولِكَ كُنْ لَنَا زِيَارَتُهَا كُلَّ المُشَاهِدِ تُشَهِّدُ

تلا را قول "کن" نا فضل سی تو ہئے "کن" - کربلاء المعلی لے البغف الاشرف نی
زيارة نصیب کرجے، جد زیارتہ نا سبب - زیارتہ کرنار نے تمام اولیاء کرام نا مشاہد
متبرکۃ ما حاضر تھی نے زیارتہ کروانو ثواب حاصل تھائی چھے۔

مَكَانٌ عَلَيْهِ يَسْجُدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ
يَقِينًا لِأَحْرَازِ الشِّفَاءِ لِمَشْهَدٍ

جد جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شہزادہ امام حسین صع سجدہ بجاوے چھے یہ
جگہ یقیناً شفاء حاصل کرووا واسطے مشهد چھے۔

بِحَقِّ عَلِيٍّ مَنْ لِتَخْفِيفِ أَظْهَرَ إِلَّا
مُوَالِيْنَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَى الظَّهِيرَ بُجْلَدَ

مولانا الامام علی زین العابدین صع نی حرمہ سی جد مولی ید ولایہ کرنا راو
نی پیٹھ گناہ سی هلکی تھائی - تتوسط آپ نی پیٹھ پر درہ سہی لیدا۔

بِحُرْمَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا مُحَمَّدٍ
بِهِمْ طَابَ حَقًا لِلْمُوَالِيْنَ مَوْلَدٌ

أهل البيت آل محمد الطاهرين صع نی حرمہ سی کہ جد سکلا نا سبب تحقیقا
محبة کرنا راوی ولادہ پاک تھئی۔

بِطِيبِ عَصْرِيِّ مَنْ بِفَضْلِ دُعَاتِهِ يُرَىٰ يَقْظَامُ كَوْنِهِ هُوَ يُرْقُدُ

مارا زمان نا امام - طیب العصر والا وان صع في حرمہ سی۔ کجہ مولیٰ آپ نا دعا نا سبب جاگتا ہوا دیکھائی چھے دراں حال کہاں کہف التقیہ ما ارام فرمادی رہیا چھے۔
(آلیہ شریفة نی طرف اشارہ چھے: "وَخَسَبُهُمْ أَنْ يَقْتَلُوكُمْ وَهُمْ لَا يُفَوِّدُونَ")

بِحَقِّ الدُّعَاءِ الْمُطْلَقِينَ مَقَامُهُمْ لِخِدْمَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي السَّتْرِ مُفْرَدٌ

دعاۃ مطلقین^۴ نی حرمہ سی جو سکلانو مقام سترا زمان ما اهل البيت صع
نی خدمۃ کروما مفرد چھے، یکتا چھے۔

بِطَاهِرِهِمْ سَيِّفِ الْأَمَامِ وَنَجْلِهِ الْ أَمِينِ الَّذِيْ بَيْنَ الْأَنَامِ مُحَمَّدٌ

الداعی الاجل سیدنا طاهر سیف الدین رض نی حرمہ سی جو امام نی توار چھے،
لئے آپ نا شہزادہ داعی اللہ الامین سیدنا محمد برہان الدین رض نی حرمہ سی جو
مولیٰ محمد چھے، تمام خلق نا درمیان آپ نا وکھان تھائی چھے۔

**هُوَ الْمُلْكُ الْمَعْصُومُ فِي كُلِّ حَالَةٍ
مُقْلِدُ عَقْدِ النَّصْ وَهُوَ مُقْلِدُ**

اپ اروا فرشتہ چھے جہر حالہ ما معصوم چھے، نص نا قلاڈے نے اپ یہ
پہنا، لئے اپ - یہ نص نا قلاڈے نے پہناؤ نار چھے۔

**أَلَا إِنَّمَا لِلْخَيْرِ كُلُّ عِهْدٍ
تُصَبِّطُ عَلَىٰ مَنْ عَاهَدَهُ يَتَقَلَّدُ**

هو شیار! تمام خیرنا بارش وہ شخص نا اوپر ورسے چھے جہاں اپ مولی ناعهد نا
قلادے نے پہنے چھے۔

**لَقَدْ كَانَ بُرْهَانًا الصِّدْقِ بِنَحَابِهِ الْ
وَلِيٌّ فَسُحْقًا لِلَّذِي ظَلَّ يَجْحَدُ**

تحقیقاً اپ سچائی نی برہان ہتا جہاں نا سبب ولاية را کھنار یہ نجاہ حاصل
کیدی، چھی وہ شخص واسطے ہلاکی چھے جہاں تھا ہوا انکار کر تو رہ چھے،
لئے جھناؤ تو رہ چھے۔

أَيَارِبِ تَكَّمُ مَا نَوَى لِبِنَاءٍ
وَإِيَّاهُ مَعْصَبُ الْأَمُورِ تُشَيدُ

اے مارا رب! اپ مولیٰ رضید جر جر چیز نے بنوا اپنی نیت کیا - اهنے تو تمام
کرجے، امور نی دشواریگی نا باوجود یہ بناء نے تو مضبوط کرجے.

أَنَا عَبْدُ إِلَّا الْمُصْطَفَى وَجَحْوِلِهِمْ
وَقُوَّتِهِمْ دَابًا أَقْوَمُ وَاقْعُدَ

میں طہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا شہزاداؤ صع نو غلام چھوں، ہمیشہ یہ سگلانی
حول ائے قوتہ سی انھوں چھوں ائے بیٹھوں چھوں.

لِذِكْرِ شَهِيدِ الطَّفِ عُمْرِي طَوَّلَنْ
مَحَالِسَهُ بِالْحَدِّ وَالْجُهْدِ أَعْقَدَ

شہید کربلا مولانا امام الحسین صع نی ذکر واسطے ماری عمر نے تو دراز
کرجے، جد وجہ کری نے، اہبہ ائے استعداد نا ساتھے - اپ نی ذکر نی
مجالس نے میں عقد کرتورہوں.

أَقْرَبَ لِي الْعَدِيْنِ فِي وَلَدِيْ كَذَا
بَنِي الدِّينِ كُلُّ مِنْهُمُ الْبَرِّ يَعْمَدُ

ما را فرزندو ما لنه ييج مثل دين نا فرزندو ما ماري انگنه نے ٹھنڈي کرجے،
يد سگلا ما سی هر ايک هر حال ما بھلائي کرتا رہے۔

أَطْبُ عَيْشَهُمْ دِيْنًا وَدُنْيَا وَكُلُّهُمْ
فَوَانِيسَ نَفْعُ الْخَلْقِ أَجْمَعَ يُوقَدُ

دین لنه دنيا نی حیثیۃ سی يد سگلا نی زندگی نے پاک کرجے، لنه يد سگلا
خلق نے نفع پہنچاوانا چراغونے روشن کرتا رہے۔

أَعِنْهُمْ عَلَى أَعْمَالٍ شَرُعْ نَبِيَّنَا
لِيَسْعَدَ مِنْهُمْ يَوْمَهُمْ وَكَذَا غَدَ

يد سگلا نے همارا نبی نی شریعة مطابق عملو کروا پر یاري اپچے تاکہ يد سگلا
واسطے اچ نو دن لنه ييج مثل کال نو دن سعادت و تتو تھائی۔ (دنيا لنه آخرة ما
يد سگلانے سعادت ملے)

**فِرَمْ مِنْ حَرَامٍ يُسْكِرُ الْعَقْلَ حُضْرُمْ
عَلَىٰ مَا يَزِيدُ الْعَقْلَ نُورًا وَيُحْمَدُ**

۵۱

یہ سگلانے وہ حرام سی بچاؤ جے جد عقل نے چھاک ملاوے چھے، یہ سگلانے وہ عمل کرو اپر شوق بتاؤ جے جد عقل نے روشن کرے چھے لئے جد عمل نا وکھان تھائی چھے۔

**وَحَلَّ قَضَايَاهُمْ وَسَهَّلَ امْوَارَهُمْ
وَعَنْهُمْ عَظِيمَاتِ الْمَعَاضِيلِ تُبْعِدُ**

۵۲

لئے یہ سگلانا قضايانے تو حل کرجے لئے یہ سگلانا امور نے سهل کرجے، لئے مھوئی مھوئی مشکلو نے یہ سگلاسی دور کرجے۔

**أَسَارَى الْهَيُولَى أَطْلَقَنْ رَبِّ حَلِصَنْ
وَلِيَّا سِجْنَ الْحَاسِدِينَ يُقَيَّدَ**

۵۳

اے مارا رب! ہیولی نا قیدیو نے تو ازاد کری دیجے، وہ محبت کرنار نے چھڑاؤ جے جد حسد کرناراونا قید خانہ ما قید تھیا ہوئی۔

**وَضَاعَفْ مِنْ أَدْوَاهُ حُقُوقَكَ طِبِّيَّا
سَرِيرَةَ أَجْرًا وَرَدَ فَضْلِكَ يُورِدُ**

انه جه سگلا یه بطیب النفس تارا حقوق لنه واجبات نے اداء کیا چھے -
ید سگلانے گونا گون اهو اجر اپچے جه تارا فضل نا ارا پر لاوے .

**وَبَارِكْ لِأَهْلِ الدِّينِ فِي مَا لِهِمْ كَذَا
لِكَ أَرْزُقُهُمْ فِيهِ الَّذِي هُوَ سَرُمَدٌ**

انه دین نا لوگونے ید سگلانا مال ما گھنی برکة عطاء کرجے ، انه ید سگلانے یہ
مال ما اھوی چیزی روزی اپچے جه ہمیشہ باقی رہنار چھے .
(مؤمنین اھنا مال نے خیر ما خرچ چھے - اھنا اجر ہمیشہ باقی رہنار چھے)

**إِيَّا رَبِّنَا ارْفُعْ مُسْتَوْيِ عَيْدِيْشْ نَاشِطِ
يُواسِيْ أَخَاهُ بَادِلَ النَّفْسِ يَجْهَدُ**

اے ہمارا رب ! وہ شخص نی زندگی نو مستوی نے توبندر کرجے جد نشاط سی اھنا
بھائی نی مواسات کرے ، انه ید امر واسطہ گھنی کوشش کری نے اھنا جان نے خرچ .

عَلَى فَرَسِ الْعُصَيْانِ لَوْجَاءَ سَائِلٍ
أَيَارَبِ لَا تَرْدُدْهُ صَفْرًا لَهُ يَدٌ

٥٧

اے مارا رب! اگر کوئی سائل بے فرمائی نا گھوڑا پر بھی اوے، تو تو اهنے
حالی ہاتھ ندا جج .

وَجَامِعَةٌ سَيِّفِيَّةٌ وَمَدَارِسٌ
إِلَيْهَا اعْتَزَتْ زِدْهَا الَّذِي هُوَ يَخْلُدُ

٥٨

الجامعة السيفية ان تمام مدارس ایمانیہ - جم الجامعہ السیفیۃ فی طرف نسبۃ لے چھ -
اہنے تو وہ چیز زیادہ عطا کرجے جہ ہیشہ باقی رہنار چھ . (امیر المؤمنین ص فرمادی چھ
کہ "مَنْقَعَةُ الْعِلْمِ بِأَبْقَيَةِ بَيْتَكَاءِ حَامِلِهِ" علم نو فائدہ اہنا اپارناری بقاء نا سبب ہیشہ باقی رہنار چھ)

وَفِي خِدْمَةِ دَقَّتْ وَجَلَّتْ لِدَعْوَةِ
مَنْ ظَلَّ يَسْعَى أَسْعَدْ ثُمَّ أَسْعَدْ

٥٩

دعوه الحق نی ہر دقيق انے جلیل خدمہ ما سعی کرنار واسطے سعاد تو بعد
سعاد تو چھ .

۶۰
اَيَا رَبِّ شَرَفٍ كُلَّ بَيْتٍ بَنِي الْهُدَى
بِحَافِظِ قُرْآنٍ بِسُورِكَ يَمْجُدُ

اے مارا رب! مؤمنین نا ہرگھرنے قرآن مجید نا حفظ کرنا سی تو شرف
اپچے جہ حافظ القرآن تارا نور سی مجد و نتائی.

۶۱
إِلَهِي ارْحَمَنْ مَنْ فَازَ بِالْمَوْتِ ذَائِقًا
لَا تَمْأَرْخُلِدٌ مِثْلَ مَا كَانَ يُوعَدُ

اے مارا اللہ! تو وہ شخص نے رحمۃ کرچے جہ موت نا نزدیک جیتی گیا، لئے
جہ مثل اهنے وعدہ کرواما ایو تھو۔ یہ مثل یہ جنة نا پھلو نے چاکھی لیلا.

۶۲
وَعِجَّلْ ظُهُورَ السِّرِّيِّ فِيْ إِنَّ هَا هُنَا
لَعِلْمًا غَدَّا جَمَّا لِبُشْرَاهُ خَصْدُ

امیر المؤمنین مولانا علی بن ابی طالب صع اپ نا سینہ پر ہاتھ سی ضرب کری نے فرماؤتا کہ
”انَّ هَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا“، یہ قول نا سیر نے تو شتابی ظاہر کرچے، امام الزمان صع نا ظہور سی یہ
قول نی بشارتے نے ہیں لئیئے۔ (”ظُهُورُ إِنَّ هَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا“ نا عدد ۱۴۳۹ھ تھائی چھے)

**وَبِالْقَائِمِ الْمُوْلَى جَلَّتْهُ أَقِمْ
عَلَى ذِكْرِهِ أَسْنَى السَّلَامِ يُؤْبَدِ**

مولانا القائم جد نی ذکر پر ہمیشہ بلند سلام چھے ۔ اپ نی حرمہ سی،
اپ نی جلالۃ "جلالة القائم على ذکرہ السلام" (۱۴۳۹) نے قائم کرجے۔

**وَأَخْرِزِ الَّذِي يَسْعُى فَسَادًا وَأَرْدِه
وَضَلِّلِ الْهَيْ كَيْدَ مَنْ يَتَمَرَّدُ**

انہ جد فساد کروانی سعی کرے چھے، اہنے خری ما واقع کرجے لئے هلاک
کرجے، انہ لئے مارا اللہ! وہ شخص ناکید نے تضليل ما کرجے جد بے فرمانی
کرے چھے، بغاؤہ کرے چھے۔

**إِلَى الْمِيمِ، إِلَى عَيْنٍ وَفَاطِمٍ
هَدَا يَا صَلُوةً بِالْتَّسَالِيمِ تُسْرَدُ**

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی آل مولانا علی صع انہ مولاتنا فاطمۃ صع نی آل نی طرف
سلام ناساتھے صلوات نا ہدایا مسلسل پہنچتا رہے۔

ليلة القدر المباركة ما صادر تهئلا

ارشاد منير

من الموقف النوراني اشرق الله انواره فرمان عاليٰ چھے کہ: جملوگو قران
مجید ندپڑھی سکتا ہوئی ترسکلا - تمیج عذردار بئراو کہ جد قران
مجید پڑھی سکے نہیں ترسکلا - نیچے موجب اج نی رات ماتسیح کرے:
یا اللہ - ۶۶ وار

یا محمد یا علی یا فاطمة یا حسن یا حسین یا طیب
۹۲ ۱۱۰ ۱۳۵ ۱۲۸ ۱۲۱ وار

تمیج روزی نی تنگی ہوئی تدور کرو اواسطے نیچے موجب تسیح کرے:

یاغنی یارزاق استغفار اللہ

۱۰۰۰ وار

۳۰۸

۱۰۶۰